

جدول

اجتماع شبِ برأت 1440 هـ



اجتماع شب براءت

نماز مغرب کے فوراً بعد 6 نوافل

معمولاتِ اولیائے کرام سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2، 2 رکعت کر کے ادا کئے جائیں۔ پہلی دو رکعتوں سے پہلے یہ نیت کیجئے: ”یا اللہ پاک ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔“ دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمائیے: ”یا اللہ پاک ان 2 رکعتوں کی برکت سے میری حفاظت فرما۔“ تیسری 2 رکعتوں کیلئے یہ نیت کیجئے: ”یا اللہ پاک ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔“ ان 6 رکعتوں میں سُورَةُ الْفَاتِحَةِ کے بعد جو چاہیں وہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو ہر رکعت میں سُورَةُ الْفَاتِحَةِ کے بعد 3، 3 بار سُورَةُ الْاِخْلَاصِ پڑھ لیجئے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (پوری سورت) یا ایک بار سُورَةُ يُسِيْنِ شریف پڑھئے بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے سُورَةُ يُسِيْنِ شریف پڑھیں اور دوسرے خاموشی سے خوب کان لگا کر سنیں۔ اس میں یہ خیال رہے کہ سننے والا اس دوران زبان سے یسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے اور یہ مسئلہ خوب یاد رکھئے کہ جب قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کیلئے حاضر ہیں ان پر فرض عین ہے کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ہر بار یسین شریف کے بعد ”دُعائے نصف شعبان“ بھی پڑھئے۔ (مزید معلومات جاننے کے لیے رسالہ ”آقا کا مہینا“ کا مطالعہ کیجئے)

15 شعبان المعظم (20 اپریل 2019) کو مدنی مراکز فیضانِ مدینہ اور مساجدِ دعوتِ اسلامی (اور جن مساجدِ اہلسنت میں ممکن ہو) میں نمازِ مغرب کے فوراً بعد 6 نوافل کی ترکیب کی جائے۔

جدول

دورانیہ	جدول کی نوعیت
5 منٹ	تلاوت
10 منٹ	حمد
1 گھنٹہ	نعت خوانی
30 منٹ	صَلٰوةُ التَّسْبِيْحِ (جہاں استیحاء و وضو وغیرہ کی سہولت ہو، وہاں ترکیب کی جائے ﴿میدان / پارک / قبرستان وغیرہ کے قریب میں اجتماع ہونے کی صورت میں اس کی جگہ نعت خوانی وغیرہ کی ترکیب کر لی جائے﴾)
30 منٹ	نعت خوانی
90 منٹ (ڈیڑھ گھنٹہ)	بیان: سچی توبہ (پاک کابینہ دفتر سے بھیجا جانے والا بیان) + اعلانات و ترغیبات وغیرہ
30 منٹ	نعت خوانی
10 منٹ	اعلانات
10 منٹ	مثنوی عطار (2): ”بے وفاؤ! تباہیہ مت کرا اعتبارؔ تُو اچانک موت کا ہو گاشکار“ (حوالہ: دو سائل بخشش، ص 711)
5 منٹ	ذکر
15 منٹ	دعا
5 منٹ	صلوٰۃ و سلام
مجموعی دورانیہ: کم و بیش 5 گھنٹے	

یہ جدول نمونہ بنایا گیا ہے، متعلقہ نگرانِ کابینہ / نگرانِ زون کے مشورے سے اپنے شہر کے حساب سے جدول میں کمی بیشی کی جاسکتی ہے۔ اجتماعِ شبِ براءت چونکہ نیتے کی رات کو، اس لیے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، جہاں ممکن ہو دورانِ اجتماعِ مدنی مذاکرے کی بھی ترکیب کی جائے۔

✽ تلاوت سے قبل تمام عاشقانِ رسول کو ایک جگہ جمع کیا جائے، تلاوت سُننے اور اجتماع میں مکمل شرکت کی اچھی اچھی نیتیں بھی کروائی جائیں۔

✽ سحری کا وقفہ شرکاء کی تعداد کے لحاظ سے کیا جائے مثلاً جہاں 1200 شرکاء ہوں، وہاں اس حساب سے اور جہاں 700 ہوں، وہاں اس حساب سے۔

✽ گتے اور پینا فلیکس لگانے کی حاجت نہیں، دعوت سینہ بہ سینہ (بالمشاہدہ) دی جائے نیز شخصیات (علماء و مشائخ، تاجران وغیرہ) کو بھی مدعو کیا جائے۔

✽ اجتماعِ شبِ براءت کے لئے شہر و اطراف سے گاڑیاں چلانے کی بھرپور ترکیب کی جائے، اس کے لئے اطراف گاؤں کی مجلس کے ذمہ داران کو بھی متحرک (Active) کیا جائے۔

✽ گاؤں میں بھی جو بڑے گاؤں، بہت سے گاؤں کے مرکز ہیں، وہاں پورے ماہِ رمضان اور آخری عشرے کے سنتِ اعتکاف کی بھرپور دعوت دی جائے۔

✽ متعلقہ زون نگران / نگرانِ کابینہ یا ڈویژن مشاورت کے نگران، اجتماعِ شبِ براءت کے انتظامی معاملات اور اجتماع میں تلاوت، نعت اور بیان کرنے والے مبلغین و نعت خواں کا مشورہ، اجتماع سے کم از کم 7 دن پہلے کر لیں۔ (بالخصوص بڑے شہروں میں زون نگران / نگرانِ کابینہ خود مدنی مشورہ فرمائیں)

✽ ایک انتظامی مجلس بنا دی جائے جو کہ کم و بیش 5 اسلامی بھائیوں پر مشتمل ہو۔ ان اسلامی بھائیوں میں مختلف کام تقسیم ہوں اور حسبِ ضرورت سب اسلامی بھائیوں کے ساتھ ان کے معاونین بھی ہوں۔ انتظامی مجلس کے مختلف کام: ☆ حفاظتی امور ☆ لائٹ ☆ ساؤنڈ ☆ جزیٹ میچ آپریٹر ☆ خیر خواہ (جو ادھر ادھر گھومنے پھرنے والوں کو نرمی کے ساتھ اجتماع گاہ میں بیٹھنے کی درخواست کریں) ☆ منج ذمہ دار ☆ مجلس لنگرِ رضویہ ☆ پارکنگ ☆ بستہ مکتبہ المدینہ، بستہ مالیات وغیرہ۔

✽ اجتماع گاہ میں مین داخلی دروازے پر دعوتِ اسلامی کے 107 شعبہ جات کا پینا فلیکس نمایاں لگایا جائے۔

✽ مالیات والے، ٹیبل کرسی رکھ کر بیٹھے ہوں اور رسید بکس بھی ہوں تاکہ مدنی عطیات جمع کرنے والوں کو دشواری نہ ہو۔ (کسی ایک رنگ کی جھولی کی ترکیب بھی کی جاسکتی ہے)

✽ اجتماع گاہ میں بالخصوص یہ ترکیب ضرور کی جائے: (مجلسِ اعتکاف کے ذمہ داران + نگرانِ شہر مشاورت / نگرانِ ڈویژن مشاورت اس کے لیے پہلے سے باقاعدہ تیاری رکھیں) پورے ماہِ رمضان اعتکاف اور آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت کرنے والوں کے نام اور رابطہ نمبر لکھے جائیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ باب المدینہ کراچی اعتکاف کرنے والوں کے نام اور رابطہ نمبر لکھے جائیں۔ مبلغِ بیان کے آخر میں نام لکھوانے کی ترغیب ضرور دلائیں۔ اپنے شہر / زون میں یا عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ باب المدینہ (کراچی) اعتکاف کے لیے نام لکھوانے والوں سے بعد میں مسلسل رابطہ رکھا جائے۔

✽ شرکائے اجتماع کو 15 شعبان کا روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی جائے، سحری کے انتظامات کے لئے ابھی سے مجلس لنگرِ رضویہ کو متحرک کیا جائے۔

✽ کسی صحیح خواں خوش الحان قاری سے تلاوت کروائی جائے۔ تلاوت کے بعد حمد کی ترکیب کی جائے مثلاً یا اللہ یا اللہ، پھر مناجات (وسائلِ بخشش سے)

✽ کلام صرف انہی علمائے اہلسنت کے پڑھے جائیں: سیدی اعلیٰ حضرت (حدائقِ بخشش)، مولانا حسن رضا خان (ذوقِ نعت)، مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان (سامانِ بخشش)، مولانا حامد رضا خان (بیاضِ پاک)، صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی (ریاضِ نعیم)، مفتی احمد یار خان نعیمی (دیوانِ سالک)، مداحِ الحبيب مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین (قبلاہِ بخشش) اور امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ (وسائلِ بخشش)

✽ اجتماعِ شبِ براءت کی کارکردگی اگلے دن ہی متعلقہ زون / ریجن کارکردگی دفتر میں میل / واٹس ایپ کر دی جائے۔

پاکستان انتظامی کابینہ دفتر

3 شعبان المعظم 1440ھ، 9 اپریل 2019ء